

## WORLD ECONOMY &amp; POLITICS

## BR

## US, Japan leaders ink rare earths deal ahead of Trump-Xi meet

TOKYO: US President Donald Trump and Japanese Prime Minister Sanaka Takaichi signed a framework agreement on Tuesday for securing the supply of rare earths, as both countries aim to reduce dependence of some critical minerals, at the sidelines of the Asia-Pacific Economic Cooperation summit in South Korea.

The leaders signed the Tuesday for securing the supply of rare earths, as both countries aim to reduce dependence of some critical minerals, at the sidelines of the Asia-Pacific Economic Cooperation summit in South Korea.

Beijing has recently announced export controls on rare earths and critical minerals and rare earths, and Japan and the US would manage and cooperate with other international partners to ensure supply to speed up the "development of diversified supply and fair markets for critical minerals and rare earths", and aim to provide financial support to selected projects within the next six months, the White House said.

Both countries would consider a mutually complementary stockpiling arrangement and cooperate with other international partners to ensure supply to speed up the "development of diversified supply and fair markets for critical minerals and rare earths", and aim to provide financial support to selected projects within the next six months, the White House said.

US economy, part of the wider bilateral trade deal, which could include power generation and liquefied natural gas, among other areas, according to sources familiar with the talks.

Ahead of Trump's Asia trip, the US called on Russia energy buyers, including Japan, to cease imports, and imposed sanctions on Moscow's two and Mitsubishi helped to launch in 2009—Reuters

Rosneft and Lukoil - to the Kremlin to the negotiation table to end the war in Ukraine.

Japan has stepped up LNG purchases in the last few years as it tries to diversify away from its key supplier Australia and prepare for Russian energy buyers, including Japan, to cease imports, and imposed sanctions on Moscow's two and Mitsubishi helped to launch in 2009—Reuters

**Askari General Insurance Company Limited**  
Head Office: 3rd Floor, AWI Plaza, The Mall, Rawalpindi  
UAN: +92-51-111-444-687

**NOTICE OF BOOK CLOSURE FOR RIGHT ISSUE**

The shareholders of the company are hereby informed that the Share Transfer Books of the company for entitlement of 40,000 Right Shares (in proportion of approximately 40.00 shares for every 100 shares held at a price of Rs. 32/- per share inclusive of a premium of Rs. 22 per share), will be closed on **06th November 2025** to determine the entitlements of right shares.

Transfers received in good order at the office of the Company's Share Registrar, THCO Associates (Pvt.) Ltd. Share Registrar Services, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, DHA Phase VII, Karachi-75500 Pakistan, by the close of business on **November 05th, 2025**, will be considered in time for the purpose of entitlement of right shares.

**Waqas Ali, Company Secretary**  
Dated: 28th Oct. 2025

FINAL NOTICE  
UNCLAIMED / UNPAID DIVIDENDS

- This is to inform the shareholders that details pertaining to the Unclaimed Shares and / or Dividends declared by "Engro Corporation Limited" (the Company) have been updated on the company's website: [www.engrocorporation.com](http://www.engrocorporation.com). These details pertain to dividends and / or shares that have remained unclaimed or unpaid for a period of three years from the date of eligibility.
- A notice was sent on July 31, 2025 via registered post on the last known addresses of all such shareholders to submit their claims to the Company within three months. No response has been received against the said notice by the Company.
- The Company would again like to invite shareholders to lodge their claims with its Share Registrar at the address mentioned below. The claim should be lodged within 90 days of this public notice, and in case no claim is received within this period, the Company shall proceed to deposit the unclaimed shares and / or unpaid dividend amount with the Federal Government pursuant to the provisions of Sub-section (2) of Section 244 of the Companies Act, 2017.

Share Registrar  
M/s. FAMCO Shares Registration Services (Pvt.) Limited,  
8-F Near Hotel Faran, Nursery, Block 6,  
P.E.C.H.S. Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400  
Tel: 021-34380101-5  
Email: [info.shares@famcos.com](mailto:info.shares@famcos.com)

Place: Karachi, Pakistan

For and on the behalf of  
**ENGRO CORPORATION LIMITED**  
Muhammad Ansh  
Company Secretary

**Engro Corporation Limited**  
19<sup>th</sup> Floor, The Harbour Hotel Building, H-3, Marine Drive, Clifton, Karachi, Pakistan.  
Phone # 021-35255948 UAN: 111-211-211

**GOVERNMENT OF PAKISTAN**  
**MINISTRY OF INTERIOR & NARCOTICS CONTROL**  
**NATIONAL DATABASE AND REGISTRATION AUTHORITY (NADRA)**  
**REGIONAL HEAD OFFICE, KARACHI**

**E-Bidding for Rental Office / Space Required**  
**For Shifting of NADRA Registration Center Kot Ghulam Muhammad**

(Tender Notice No. 31/2025/Khi)

S#	Name of NRC	District	Location	Covered Area in Sq.Ft.
1.	NRC Kot Ghulam Muhammad	Mirpurkhas	Vicinity of Kot Ghulam Muhammad City	2000-3500 (Preferably)

**OFFICE ACCOMMODATION WILL HAVE FOLLOWING FEATURES:**

- Office Space at Ground floor + Mezzanine floor (preferably), in the shape of hall with public and staff washroom and an approachable main location.
- Prominent, having independent entrance with wide gate and located on main road.
- Security wise viable location and easily accessible by public transport.
- Dedicated 3 Phase Electric Meter Connection with PMT (25 to 50 KVA).
- Line water facility along with overhead tank and Electric Water Pump.
- Ramp for wheel chair for disabled citizens.
- Proper Space and WOC for installation of direction board, sign board, Solar Installation and heavy generator (25 to 50 KVA).
- Roof top for satellite dish antenna installation and solar installations.
- Proper Flooring (i.e. Marble, Tiles), Front Glass Door with shutter Gate (Separate Entrance & Emergency Exit) & False Ceiling with electrification.
- Proper Parking Space and proper public queue space.
- Status of the building must be commercial.
- Tenancy for a minimum period (i.e. 10 years).

**Note:**  
The bidding shall have conducted in line with the "Single Stage-Two Envelope" procedure. Electronic Bidding documents as per regulations, containing detailed terms & conditions, requirements etc. are available for the registered bidder on EPADS at <http://www.epads.gov.pk>. The electronic bids must be submitted by using EPADS in accordance with the instructions provided in bid document, on or before **20th November, 2025 (Thursday) at 02:00 PM** (Mannal Bids will not be accepted). Electronic bid will be opened on same day i.e. **20th November, 2025 (Thursday) at 02:30 PM** at below mentioned address of conference Hall NADRA RHO Karachi in the presence of available bidder.

Bidder must attach the following attested documents in addition to any other information required to furnish:

- Attested Photocopy of property documents of the owner, in case of co-share partner shall provide power of attorney in favour of bidder.
- Attested Photocopy of valid approved Map, Site plan, GNC, NTN, GST and SST from the Concerned Authorities.
- Completion and Fitness Certificate of the building from concerned authority.
- Undertaking on Non-Judicial stamp paper of Rs.100/- certifying that owner/building is not temporary/permanently obtained from any Government agency/authority/department (without bearing any responsibility on NADRA whatsoever in this regard).
- Quoted price shall be inclusive of all applicable taxes.
- No brokerage/service charges will be paid in case of real estate agent.
- NADRA reserves the right to exercise the power under PPRA Rule 33.
- Bid can also be rejected if owner of selected building fail to produce acceptable required/proper documents.
- This advertisement is also available on PPRA Website at [www.ppra.org.pk](http://www.ppra.org.pk).
- This advertisement is also available on EPADS.

**Note for Bidder: Please do not attach Financial bid in Technical Bid.**

For any query contact on following address:

Assistant Director (Admin)  
NADRA Regional Head Office, Karachi  
29-E, Miran Mohammad Shah Road, M.A.C.H.S KDA Scheme-1, Karachi  
Tel # 021-34540929

## India signs aircraft deal with sanctioned Russian firm

NEW DELHI: India's state-owned aeronautics firm said on Tuesday it had signed a deal with a Russian aircraft manufacturer under US and European sanctions, a move likely to irk New Delhi's Western allies.

Hindustan Aeronautics Limited (HAL) announced the deal with United Aircraft Corporation to manufacture civil passenger aircraft in India for the first time.

India's Defence Minister Rajnath Singh, in a post on X, hailed "a landmark step for the Indian civil aviation sector" that will create jobs and boost self-reliance.

The United States and some other Western partners have previously criticised India's policy towards Russia since its invasion of Ukraine in 2022, demanding that Delhi comply with their sanctions against Moscow.

India in turn has said it does not subscribe to unilateral sanction measures. According to the aircraft deal inked in Moscow, HAL will partner with the Russian United Aircraft Corporation to produce SJ-100 twin-engine, narrow-body planes for domestic

users. HAL said in a social media post that it would be "the first instance wherein a complete passenger aircraft will be produced in India".

Both HAL and Singh called it a "game-changer for short-haul connectivity".

The deal highlights Delhi's continued defence and energy ties with Moscow.

In August, US President Donald Trump raised tariffs on Indian exports to 50 percent, with Washington accusing India of fuelling Russia's war in Ukraine.

Trump recently claimed that Indian Prime Minister Narendra Modi had agreed to reduce Russian oil imports as part of a potential trade agreement, but there was no confirmation from Delhi.—AFP

## Tata's charity arm ousts key member Mistry from board

NEW DELHI: Tata Group's charity arm Tata Trusts has voted to oust Ratan Tata, has raised businessman Mohi Mistry from its board, a person close to the group said.

Mistry, a senior executive at M Pajoni Group which has business interests in logistics and shipping, was one of the trustees on the executive committee of Tata Trusts, whose charity work includes healthcare, education and rural support.

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

A boardroom battle at the Tata charity arm, a year after the death of the family patriarch Ratan Tata, has raised fears of a repeat of a bitter 2016 public spat with Tata Sons.

Mistry, a senior executive at M Pajoni Group which has business interests in logistics and shipping, was one of the trustees on the executive committee of Tata Trusts, whose charity work includes healthcare, education and rural support.

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to vote against his reappointment, said the person with direct knowledge who did not wish to be named as the decision isn't public.—Reuters

BOARD MAJORITY VOTE AGAINST REAPPOINTMENT  
A majority of board members at Tata Trusts have decided to



